

ڈنڈاس اسٹریٹ کے نام کا جائزہ لینے کی مشاورت کی کہانی

2020 میں جارج فلائیڈ، بریونا ٹیلر اور ریگیس کورجنسکی پاکیزہ کی اموات کی وجہ سے شمالی امریکہ کے شہروں، دنیا بھر میں اور یہاں ملک کے اندر احتجاج اور بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ جب لوگوں نے اس پیرارکی اور منظم نسل پرستی کے خلاف احتجاج کیا جس نے سیاہ فام، مقامی باشندوں اور دیگر مساوات کی متلاشی کمیونٹیز کے لیے زندگی کو بے حد مشکل بنا دیا تھا، ان مظاہروں میں مجسمے گرا دیئے گئے اور مظاہرین نے ان لوگوں سے تاریخی یادگاروں اور اعزازات کو چھین لینے کا مطالبہ کیا جن پر نسل پرستی کے کاموں اور غلامی کی حمایت کرنے کا الزام تھا۔

جو لوگ مسلسل طور پر منظم نسل پرستی کا شکار ہیں ان کے لیے انصاف کے مطالبات نے ان کے لیے عوامی سہولیات تیار کرنے کی اہمیت کے بارے میں فوری بات چیت کی ضرورت کا احساس شامل کر دیا ہے۔ عوامی مقامات کی منصوبہ بندی، ڈیزائن اور انتظام کرنے کا یہ نقطہ نظر اجتماعی طور پر انہیں شہر میں محفوظ مقامات بنانے کے مقصد کا تصور دلاتا ہے جو خاص طور پر ٹورنٹو میں سیاہ فام اور مقامی کمیونٹیز کے لیے شمولیت اور احساس یکجہتی کو فروغ دیتا ہے۔ لوگوں کو غلام بنانے والے کسی شخص کے نام سے منسوب کسی پارک یا رہائشی اسکولوں کی بنیاد رکھنے میں ہاتھ بٹانے والے شخص کے اعزاز میں اس سے منسوب کسی ادارے سے ہماری کمیونٹی کے سیاہ فام اور مقامی باشندوں کے اراکین کے لیے خوش آئند ماحول کا احساس نہیں ہوگا۔

جون 2020 میں ایک [آن لائن عرضی](#) تیار کی گئی تھی جس میں ڈنڈاس اسٹریٹ کا نام تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ 14,000 سے زیادہ لوگوں کے ذریعہ دستخط شدہ عرضی نے اس اسٹریٹ کے ہم نام اسکاتس سیاستدان ہینری ڈنڈاس پر اعتراض کیا تھا۔ ڈنڈاس پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے ماورائے اوقیانوس میں غلاموں کی تجارت کے خاتمے کی تاخیر میں اہم کردار ادا کیا تھا، جس کی وجہ سے برطانوی سلطنت میں مزید نصف ملین سے زیادہ سیاہ فام افراد کو غلام بنایا گیا تھا۔ عرضی کے جواب میں میئر جان ٹوری نے سٹی مینیجر کرس مرے سے سٹی کے عملہ کا ایک ورکنگ گروپ تشکیل دینے کو کہا، جس میں سٹی کے انسداد سیام فام مخالف نسل پرستی یونٹ اور مقامی باشندوں کے امور کے دفتر کو بھی شامل کیا جائے، تاکہ وہ گروپ اس معاملے کی جانچ پڑتال کرے اور واپس رپورٹ کرے۔

30 ستمبر کو سٹی کونسل نے ڈنڈاس اسٹریٹ کا نام تبدیل کرنے کی عرضی پر جواب دیتے ہوئے سٹی مینیجر کی [رپورٹ](#) کو متفقہ طور پر قبول کر لیا۔ رپورٹ میں ٹورنٹو کے باشندوں اور سیاہ فام، مقامی باشندوں، رسائی اور دیگر مساوات کے متلاشی کمیونٹیز کے ساتھ جامع عوامی مشاورت کا وعدہ کیا گیا ہے۔

نام میں کیا ہے؟

مشاورت سے آپ یہ اندازہ کر پائیں گے کہ آیا آپ کے خیال میں ڈنڈاس اسٹریٹ کا نام تبدیل ہونا چاہئے یا نہیں اور، اگر ہونا چاہئے، تو کیسے:

- نام ڈنڈاس اسٹریٹ رکھیں، لیکن تختیوں اور سائن بورڈوں کے ذریعہ اضافی تاریخی معلومات فراہم کریں
- ڈنڈاس نام والی سٹی کی جائیدادوں کا نام بدل دیں (ماسوائے TTC کے)، لیکن ڈنڈاس کی اسٹریٹ کا نام برقرار رکھیں
- اسٹریٹ اور سٹی کی تمام ڈنڈاس نام والی جائیدادوں کا نام تبدیل کریں۔

لیکن یہ ڈنڈاس اسٹریٹ سے کہیں زیادہ کے بارے میں ہے۔ یہ اس بارے میں ہے کہ ہم کس طرح سے نام رکھتے ہیں اور یہ کہ ہم کس کی عزت کرنا چاہتے ہیں۔ کس کی نمائندگی کی جاتی ہے، اور کس کی نہیں؟ کیا ہمارے نام اس معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں جس میں ہم رہتے ہیں اور جس کی ہم خواہش کرتے ہیں؟ مشاورت میں شہر ٹورنٹو کے لیے ایک مجموعی طور پر یادگاری فریم ورک کی تشکیل کے لیے سفارشات طلب کی جائیں گی، جس میں سٹی کے اثاثوں کا نام رکھنے اور نام تبدیل کرنے اور دیگر اقسام کی شناخت کے رہنما اصول شامل ہوں گے۔

جائزہ اور عوامی مشاورت سیاہ فام مخالف نسل پرستی اور مقامی کمیونٹی کے خلاف نسل پرستی کو دور کرنے کے لیے اقدامات کرنے کے سٹی کے عزم کے موافق ہے۔ اس عزم میں سٹی کونسل کی 2017 کی سیاہ فام مخالف نسل پرستی کا مقابلہ

کرنے کے لیے ٹورنٹو ایکشن پلان کی متفقہ قبولیت اور اقوام متحدہ کی افریقی نسل کے لوگوں کے بین الاقوامی عشرے کو رسمی طور پر تسلیم کرنا اور سچائی اور مفاہمت اور مقامی کمیونٹیز کے لیے سٹی کی جاری وابستگی شامل ہے۔ عوامی مشاورت میں مساوات کی متلاشی دیگر کمیونٹیز کی نمائندگی بھی شامل ہوگی، جس میں رسائی کی خواہاں برادری اور خواتین شامل ہیں۔

آپ مندرجہ ذیل کے ذریعہ اپنی رائے رکھنے اور مزید معلومات حاصل کرنے کے اہل ہوں گے:

- اسپیکر کا پینل پروگرام
- ٹیلی فون ٹاؤن ہال کی عوامی تقریبات
- اہم شراکت داروں کے ساتھ میٹنگیں اور تبادلہ خیال، جس میں سٹی کی پارٹنرشپ اور احتساب سرکل، اہورجنل افیئرز ایڈوائزری کمیٹی، مقامی پلیمس میکنگ سرکل، ٹورنٹو ایکسیسیبلٹی ایڈوائزری کونسل اور ایکویٹی اینڈ انکلیوزن ایڈوائزری گروپ، نیز تاریخی معاشرے، کاروباری بہتری کے علاقے اور کمیونٹی کی تنظیمیں شامل ہوں گی۔
- روایتی علاقہ اور معاہدہ ہولڈرز کے لیے میٹنگیں، جس میں کریڈٹ فرسٹ نیشن کے میسیساگا، ہاؤڈینوساؤنی اور ہیورون وینڈاٹ شامل ہیں
- عوامی رائے شماری
- ایک آن لائن سروے والا ویب صفحہ
- تبصرہ کرنے کے لیے ایک مخصوص ای میل اور فون لائن

پر مزید معلومات حاصل کریں۔ toronto.ca/dundasreview